



اس ستمبر میں واپس اسکول تک کا سفر کرنے کے لئے تیار رہیں

بسیں، ٹرینیں اور ٹرامز چل رہی ہیں لیکن اُن میں گنجائش کم کر دی گئی ہے۔



اپنے اور دوسروں کے درمیان جگہ رکھیں



اگر آپ 11 سال سے زائد عمر کے ہیں اور آپ کو استثناء حاصل نہیں ہے تو برائے مہربانی چہرے پر ماسک پہنیں



باتھوں کے لئے سینٹائزرز ساتھ رکھیں اور سفر کرنے سے پہلے اور بعد میں وہ اپنے باتھوں پر ملیں



مختصر فاصلوں کے لئے سائیکل پر جانے یا پیدل چلنے پر غور کریں



سروسز مصروف تر ہو سکتی ہیں اس لئے پیشگی منصوبہ بندی کریں اور اپنے سفر کے لئے زیادہ وقت نکالیں



اپنی ٹکٹ کے لئے پیشگی ادا نیگی کریں یا ادائیگی کا کوئی کاٹھیٹ لیس طریقہ استعمال کریں



اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو کوشش کریں اور چند گلیاں دور اتار دیں



سفر کرتے وقت رحم دلی سے کام لیں، باصبر ہوں اور محفوظ رہیں۔
آپ کے معمولات کو چلتے رہنے دینے کے ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔